

13 جون، 2022

محترم والدین/سرپرستوں اور ہالٹن کے گریڈ 7 سے گریڈ 12 کے طلباء،

ہالٹن ریجن پبلک ہیلتھ (Halton Region Public Health) کمیونٹی کی حفاظتی ٹیکوں (امیونائزیشن) کی کلینکس کا انعقاد کرے گا تاکہ گریڈ 7 سے گریڈ 12 کے طلباء، کو اسکول پر مبنی اہم ویکسینز کی کھوئی ہوئی خوراکیوں کو پورا کرنے میں مدد ملے۔

ہالٹن کے باقاعدہ حفاظتی ٹیکوں کے پروگرام کے حصے کے طور پر اسکولوں میں گریڈ 7 کے طلباء کو تین ویکسینز معمول کے مطابق پیش کی جاتی ہیں۔

- [میننگوکوکل اے سی وائی ڈبلیو-135 \(NIMENRIX®\)-135 \(Meningococcal ACYW-135\)\)](#)
- [\(NIMENRIX®\) \(اسکول کے لیے ضروری ہے\)](#)
- [بیپٹائٹس بی \(ENGERIX®-B\) \(تجویز کردہ ہے\)](#)
- [بیومن بیپیلوما وائرس- \(GARDASIL®9\) \(تجویز کردہ ہے\)](#)

کووڈ-19 (COVID-19) عالمی وباء کے اثرات کی وجہ سے اس پروگرام کو مارچ 2020 سے اپریل 2022 تک روک دیا گیا تھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ گریڈ 7 سے گریڈ 12 کے بہت سے طلباء ان اہم ویکسین کی خوراکیں کھو رہے ہیں۔

آپ اپنے بچے کے حفاظتی ٹیکوں کے ریکارڈ کا آن لائن جائزہ لے سکتے ہیں اور اسے اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں۔ امیونائزیشن کے بارے میں مزید جاننے کے لیے [halton.ca/immunize](http://halton.ca/immunize) پر جائیں یا 311 پر کال کریں۔

**13 جون، 2022** سے، گریڈ 7 سے گریڈ 12 (پیدائش 2004 تا 2009) کے اہل طلباء ہالٹن بھر کے کمیونٹی کیچ اپ کلینکس میں اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں۔ مزید برآں، 2002 اور 2003 میں پیدا ہونے والے اہل سابق طلباء کے لیے، ان کی چھوٹی ہوئی ویکسینز حاصل کرنے کے لیے اپوائنٹمنٹس دستیاب ہوں گے۔

اپوائنٹمنٹ بک کرنے کے لیے، یا کلینک کی اہلیت، مقامات، یا نظام الاوقات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، [Halton's Grade 7 School-based Immunizations](#) کا ویب صفحہ دیکھیں یا 311 پر کال کریں۔

**نوٹ: کووڈ-19 (COVID-19) کی ویکسینز، اسکول پر مبنی حفاظتی ٹیکوں کے پروگرام (School-Based Immunization Program) سے الگ ہیں۔ ان کلینکس میں COVID-19 ویکسینز پیش نہیں کی جائیں گی۔**

آپ کا بچہ (بچے) بھی آپ کے بنیادی صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے کے ذریعے یہ ویکسینز حاصل کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ براہ کرم مزید معلومات کے لیے اپنے بنیادی صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے سے رابطہ کریں، اور یاد رکھیں کہ جب آپ کے بچہ کو کوئی ویکسین مل جائے تو اس کے حفاظتی ٹیکوں کی اطلاع [آن لائن](#) ہالٹن ریجن پبلک ہیلتھ ریکارڈ کو دیں۔ COVID-19 ویکسینز کی اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

مخلص،

ہالٹن ریجن پبلک ہیلتھ (Halton Region Public Health)